



فَاطِرٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سب تعریف اللہ کیلئے ہے جو پیدا کرنے والا ہے
 ہے آسمانوں اور زمین کا۔ بنانے والا ہے
 فرشتوں کو پیغام رساں۔ بازوں والے دو دو اور
 تین تین اور چار چار۔ بڑھاتا ہے وہ تخلیق میں جو
 چاہتا ہے۔ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكَةِ مُرْسَلًا
 أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مِّثْنَىٰ وَتُلْثٌ وَرُبْعٌ
 يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

جو کھول دیتا ہے اللہ لوگوں کیلئے اپنی رحمت کو
 تو نہیں کوئی روکنے والا اسکو۔ اور جو وہ روک
 دے تو نہیں کوئی بھیجنے والا اسکو اسکے بعد۔ اور
 وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ
 فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا يُمْسِكُ فَلَا
 مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

اے لوگوں یاد کرو نعمت اللہ کی تمہارے اوپر۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

کیا ہے کوئی خالق سوائے اللہ کے جو رزق دیتا ہو تمکو آسمان سے اور زمین سے۔ نہیں ہے معبود سوا اسکے۔ تو کہاں تم لٹائے جاتے ہو۔

عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَآئِن تُوَفَّكُونَ ﴿٣﴾

اور اگر یہ جھٹلائیں تمکو تو یقیناً جھٹلائے جا چکے ہیں رسول تم سے پہلے۔ اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام معاملات۔

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾

اے لوگوں بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو نہ دھوکے میں ڈالے تمکو دنیا کی زندگی۔ اور نہ دھوکہ دے تمکو اللہ کے بارے میں دھوکے باز۔

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۗ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۗ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾

بیشک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے سمجھو دشمن۔ درحقیقت وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ ہو جائیں دوزخ والوں میں۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۗ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنَ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾

وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکے لئے شدید عذاب ہے۔ اور وہ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال انکے لئے ہے مغفرت اور بڑا اجر۔

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۗ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

تو بھلا وہ کہ آراستہ کر دیا گیا ہو جسکے لئے اسکا برا عمل پھر اس نے سمجھا اسکو عمدہ۔ تو بیشک اللہ گمراہ رہنے دیتا ہے جسکو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسکو چاہتا ہے۔ پس نہ جاتی رہے تمہاری جان ان کی خاطر افسوس کر کے۔ یقیناً اللہ واقف ہے اس سے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

اور اللہ ہی وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو پھر ہم اسے لیجاتے ہیں ایک بستی کی طرف جو بے جان ہے پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس سے زمین کو اسکے مر جانے کے بعد۔ اسی طرح جی اٹھنا ہو گا۔

وَ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْرِهُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾

جو طلبگار ہے عزت کا تو اللہ ہی کے لئے ہے عزت ساری کی ساری۔ اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور نیک عمل وہ (اللہ) بلند کرتا ہے اسکو۔ اور وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں برائیوں کی انکے لئے سخت عذاب ہے۔ اور مگر ان لوگوں کا خود ہی نابود ہو جائے گا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَوْمُ ﴿١٠﴾

اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تمکو مٹی سے پھر
 نطفے سے پھر بنا دیا تمکو جوڑا جوڑا۔ اور نہ حاملہ
 ہوتی ہے کوئی عورت اور نہ جنتی ہے مگر اسکے
 علم سے ہوتا ہے۔ اور نہ عمر پاتا ہے کوئی عمر
 پانے والا اور نہ کمی کی جاتی ہے اسکی عمر میں
 سے مگر یہ کتاب میں ہے۔ بیشک یہ اللہ کو
 آسان ہے۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
 نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا
 تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضْعُ إِلَّا
 بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا
 يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ
 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

اور نہیں ہیں یکساں دو دریا۔ یہ بیٹھا ہے
 پیاس بجھانے والا۔ خوشگوار ہے جس کا پانی اور
 یہ کھاری ہے کڑوا۔ اور ہر ایک سے کھاتے ہو
 تم تازہ گوشت اور نکالتے ہو زیور جسے تم پہنتے
 ہو۔ اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں پھاڑتی
 چلی آتی ہیں تاکہ تم تلاش کرو اسکے فضل سے
 (معاش) اور تاکہ تم شکر کرو۔

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ
 فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ
 أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
 وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
 وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لِيَتَّبِعُوا
 مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا
 ہے دن کو رات میں اور مسخر کر دیا ہے اسنے
 سورج اور چاند کو۔ ہر ایک چلتا ہے ایک وقت

يُوجِبُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوجِبُ
 النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ كُلٌّ لِيَجْرِيَ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى

مقررتک۔ یہی ہے اللہ تمہارا رب اسی کی بادشاہی ہے۔ اور وہ جنکو تم پکارتے ہو اسکے سوا نہیں وہ مالک کھجور کی گٹھلی کے پھلکے کے۔

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا
يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾

اگر تم پکارو انہیں نہ سنیں وہ تمہاری پکار۔ اور اگر سن بھی لیں تو نہ جواب دے سکیں تمہیں۔ اور قیامت کے روز انکار کر دیں گے تمہارے شرک سے اور نہیں خبر دے گا تمکو کوئی (اللہ کی) مانند خبر دینے والا۔

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَ
لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكُمْ وَلَا
يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

اے لوگوں تم سب محتاج ہو اللہ کے۔ اور اللہ ہی تو بے نیاز ہے لائق حمد ہے۔

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ
وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں اور لے آئے ایک نئی مخلوق۔

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ
جَدِيدٍ ﴿١٦﴾

اور نہیں یہ اللہ کو کچھ مشکل۔

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾

اور نہ اٹھانے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا۔ اور اگر کوئی بلائے بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کیلئے تو نہ بٹایا جائے گا اس میں

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ
تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا يُجْمَلُ مِنْهُ

سے کچھ بھی اگرچہ ہو وہ قرابتدار ہی۔ صرف تم
متنبہ کر سکتے ہو ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے
رب سے بن دیکھے اور قائم کرتے ہیں نماز۔
اور جو پاک ہوتا ہے تو صرف وہ پاک ہوتا ہے
اپنے لئے۔ اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

شَيْءٌ وَّ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا
يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور آنکھ والا۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٨﴾

اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی۔

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾

اور نہ سایہ اور نہ دھوپ۔

وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾

اور نہ برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور نہ مردہ لوگ۔
یقیناً اللہ سنا دیتا ہے جسکو چاہتا ہے۔ اور نہیں
تم سنا سکتے انکو جو قبروں میں ہیں۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنْتَ
بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾

نہیں ہو تم مگر خبردار کرنے والے۔

إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾

یقیناً بھیجا ہے ہم نے تکوین کے ساتھ بشارت
سنانے والا اور ڈرانے والا اور نہ ہونی کوئی
امت مگر گذرا ہے اس میں خبردار کرنے والا۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا
فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو یقیناً تکذیب کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ آتے رہے تھے انکے پاس انکے رسول نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتاب کے ساتھ۔

وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾

پھر پکڑ لیا میں نے ان کو جنہوں نے کفر کیا سو کیسا ہوا میرا عذاب۔

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ع ﴿٢٦﴾

کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے آسمان سے پانی۔ پھر نکالے ہم نے اس سے پھل مختلف میں جنکے رنگ اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ مختلف ہیں جنکے رنگ اور گرمی کالی سیاہ۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ج مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ شَجَرَاتٍ مُتَخَلِّفًا ط أَلْوَانَهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَ حُمْرٌ مُتَخَلِّفٌ أَلْوَانَهَا وَ غَرَابِيبٌ سُودٌ ﴿٢٧﴾

اور انسانوں میں اور جانوروں اور مویشیوں میں مختلف ہیں جنکے رنگ۔ اسی طرح ہے۔ بس ڈرتے ہیں اللہ سے اسکے بندوں میں سے علم والے۔ بیشک اللہ غالب ہے بخشنے والا ہے۔

وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ ط وَالْأَنْعَامِ مُتَخَلِّفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

بیشک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی اور قائم کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انکو دیا ہے پوشیدہ اور اعلانیہ وہ امیدوار ہیں اس تجارت کے جو ہرگز نہیں ہوگی خسارے میں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا ﴿٢٦﴾

تاکہ وہ انکو پورا دے انکے اجر اور مزید دے انکو اپنے فضل سے۔ یقیناً وہ ہے بخشنے والا قدر دان۔

لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٧﴾

اور یہ جو وحی کی ہے ہم نے تمہاری طرف کتاب میں سے وہ برحق ہے۔ تصدیق کرتی ہے ان کی جو اس سے پہلے تھیں۔ بیشک اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے بصیر ہے۔

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

پھر وارث ٹھہرایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جنکو منتخب کیا ہم نے اپنے بندوں میں سے۔ تو ان میں وہ ہیں جو ظلم کرتے ہیں اپنی جان پر۔ اور ان میں میانہ رو ہیں۔ اور ان میں ہیں سبقت لیجانیوالے نیکیوں میں اللہ کے حکم سے۔ یہی ہے وہ فضل بہت بڑا۔

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٩﴾

جنتیں ہمیشگی کی داخل ہوں گے وہ ان میں۔
انکو پہنائے جائیں گے انہیں کنگن سونے کے
اور موتی۔ اور انکی پوشاک وہاں ریشمی ہوگی۔

جَنَّتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجَلَّوْنَ فِيهَا
مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤًا
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جننے دور کیا ہم
سے غم۔ یقیناً ہمارا رب ہے بخشنے والا قادر دان۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا
الْحُزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٤﴾

جس نے ٹھیرایا ہمیں ہمیشہ کے رہنے کے گھر
میں اپنے فضل سے۔ نہ پہنچے گی ہمیں یہاں
مشقت اور نہ پہنچے گی ہمیں یہاں تھکاوٹ۔

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ
فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا
يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٢٥﴾

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکے لئے ہے آگ
دوزخ کی۔ نہ قضا آئے گی انہیں کہ وہ مر جائیں
اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے کچھ اسکا عذاب۔
ایسا ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا
يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ
عَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي
كُلَّ كَفُورٍ ﴿٢٦﴾

اور وہ چلائیں گے اسمیں۔ ہمارے رب ہلکو
نکال لے تاکہ ہم کریں نیک عمل نہ کہ وہ جو ہم
کرتے تھے۔ اور کیا نہیں ہم نے تمکو عمر دی

وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا
أَخْرَجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي
كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا

تھی کہ نصیحت حاصل کرتا اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا اور آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا۔ تو چکھو پس نہیں ظالموں کا کوئی مددگار۔

يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَ جَاءَكُمُ
النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِن نَّصِيرٍ ﴿٢٧﴾

بیشک اللہ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کا آسمانوں اور زمین کی۔ بیشک وہ واقف ہے دلوں کے بھیدوں سے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿٢٨﴾

وہ ہی ہے جس نے بنایا تمکو جانشین زمین میں۔ سو جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اسکے کفر (کا ضرر)۔ اور نہیں بڑھاتا کافروں کو انکا کفر انکے رب کے پاس سوائے ناراضگی کے۔ اور نہیں بڑھاتا کافروں کو انکا کفر سوائے خسارے کے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ فِي
الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا
يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٩﴾

کہو کیا دیکھا ہے تم نے اپنے شریکوں کو جنکو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ مجھے دکھاؤ کون سی چیز پیدا کی ہے انہوں نے زمین میں سے یا انکی شرکت ہے آسمانوں میں۔ یا ہم نے دی ہے

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا
خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ
فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ

انکو کتاب تو وہ سند پر ہوں جسکی۔ بلکہ نہیں وعدہ دیتے ہیں ظالم ان میں سے ایک دوسرے کو سوائے فریب کے۔

عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِنْ يَّعِدُ
الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا
غُرُورًا ﴿٤١﴾

بیشک اللہ تھامے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ وہ ٹل نہ جائیں۔ اور اگر وہ ٹلنے لگیں تو نہیں جو انکو تھام سکے کوئی بھی اس کے بعد۔ بیشک وہ ہے بردبار بخشنے والا۔

إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
أَنْ تَزُولَا ۗ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ
أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٢﴾

اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی بڑی بڑی اپنی قسمیں کہ اگر انکے پاس آئے خبردار کرنے والا تو یہ ضرور ہو جائیں گے ہدایت پر بڑھکر ہر ایک امت سے۔ پس جب آیا انکے پاس خبردار کرنے والا تو نہ بڑھی انکی مگر نفرت۔

وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ
جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ
إِحْدَى الْأُمَمِ ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ
مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٣﴾

غرور و تکبر زمین میں اور چال برائی کی (اختیار کی) اور نہیں پڑتا بری چال (کا وبال) مگر اسکے چلنے والے پر۔ تو کیا انتظار کر رہے ہیں یہ مگر (اللہ کی) سنت کا جو پہلے لوگوں پر ہوئی۔

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ
وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ
فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَنْ
تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

سو ہرگز نہ پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں تبدیلی۔
اور ہرگز نہ پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں تغیر۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾

اور کیا نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں تاکہ
دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان پہلے
تھے۔ اور وہ تھے بہت زیادہ ان سے قوت
میں۔ اور نہیں ایسا اللہ کہ عاجز کر سکے اسکو کوئی
چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ بیشک وہ
ہے علم والا قدرت والا۔

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا
تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ۗ وَلَكِنْ
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا
جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ
بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

اور اگر پکڑنے لگتا اللہ لوگوں کو اسکے سبب
جو انہوں نے کمایا تو نہ چھوڑتا اس (زمین) کی
پشت پر کوئی چلنے والے کو۔ لیکن وہ مہلت
دیئے جاتا ہے انکو ایک وقت مقرر تک۔ سو
جب آجائے گا ان کا وقت (تو انکو بدلہ ملے گا
(سو یقیناً اللہ ہے اپنے بندوں کو دیکھنے والا۔

